

WHAT'S IN THE BOX

AT IN GLANCE

USING YOUR BREAK X2

Follow the instructions in the Quick Start Guide and refer to the detailed information below for assistance.

1. TURN ON/OFF

Standby Mode: Press the power button to enter standby mode, and press it again or touch the screen to exit. The machine will recall your previous settings upon restart.

2. CHARGE YOUR BREAK X2

Use the included power cable to charge your Break X2 and make sure it is fully charged before first use. To preserve battery life, ensure you fully charge it at least once every 3 months.

TABLET

1. USING THE TABLET'S MAIN MENU

MICROPHONE

1. TURN ON/OFF

The microphones will automatically connect to the karaoke machine upon powering it on.

2. CHARGING MICROPHONE

To charge the microphone, turn it off and place it into the slots on the karaoke machine.

CUSTOMER SERVICE

WWW.IKARAO.COM/PAGES/SUPPORT

ATTENTION

- Using original or certified cable.
- Avoiding extreme temperatures.
- Avoiding drooping.
- Can't be placed in wet condition to avoid electric shock. Do not run the charging cable through puddles or other moisture.
- Check the machine for damage before each use.

SPEAKER

1.CONNECTING BLUETOOTH

2.CONNECTING TV VIA HDMI

The image will be displayed simultaneously on both the machine and the TV.

3.USING USB MODE

Switch to local play mode by using the button "↔" and select the desired file via File Management.

4.USING SD/TF CARD

Click "Media Player" on the tablet and choose the file you wish to play.

5.USING AUX (IN) MODE

Connect an AUX cable from the AUX In port to your device's output. Switch to AUX mode using the button "↔". Playing music from an AUX-compatible device (such as a phone, MP3 player any device that supports 3.5mm) When using AUX mode, control audio playback via the connected device.

RADIATION EXPOSURE STATEMENT (ONLY FOR SPEAKER)

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiation & your body.

USING YOUR BREAK X2 (CONTINUED)

1. CONNECTING A GUITAR

Download an equalizer app on "APP" to balance the sound of your guitar.

2. USING TWS MODE

Ensure only one speaker is connected to a smartphone. Turn on TWS mode in the "Setting" on both karaoke machines for automatic connection. TWS will disconnect if the two karaoke machines are too far apart. To restore the connection, adjust the interval within 5 minutes. If the main karaoke machine turns off or exits TWS mode, the secondary karaoke machine will enter pairing mode within 10 minutes. The main karaoke machine will not be affected if the secondary karaoke machine exits TWS mode.

3.SINGING KARAOKE

Make sure the microphones are properly set up and the mic priority (Music Ducking) is turned off. "SING" Section: Explore the media player, music library, and personalized song lists. "APP" Section: Find and install various apps using the installation pack. "MORE" Section: Manage local files, use a cleaning app and screenprot. Quickly access Bluetooth or WiFi by clicking the icons on the Homepage. Switch between Hi-Fi, Outdoor, and Light audio modes in the "Music Mode". Adjust volume, brightness and resolution in "Settings".

4. CLEANING

Turn off the karaoke machine and microphones and disconnect all cables. Wipe the outside with a clean, dry cloth. Keep vents and openings clear. Avoid water and harsh cleaners.

5. CONNECTING TO WLAN

MAINTENANCE

1. CLEANING

Turn off the karaoke machine and microphones and disconnect all cables. Wipe the outside with a clean, dry cloth. Keep vents and openings clear. Avoid water and harsh cleaners.

2. STORAGE

Charge the machine and microphones after use. Place the microphones in the two slots of the karaoke machine. Store in a cool, dry place.

3. TRANSPORT

Unplug all wires and secure the tablet. Place microphones in designated slots. Use the shoulder strap, looping it securely.

4. UPDATE

Break X2's system will receive updates every two months. You will have the option to either accept or decline these updates.

5. RESET

Reset your karaoke machine by finding 'Reset' on Settings and clicking it.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1)This device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ATTENTION

- Microphones are not to be placed in wet condition to avoid electric shock. Do not run the charging cable through puddles or other moisture.
- Check the machine for damage before each use.
- Do not expose apparatus to excessive heat such as sunshine, fire and other heat sources to reduce risk of fire or explosion.

OPERATOR

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА ЧЕРЕЗ HDMI

Изображение будет отображаться одновременно на устройстве и телевизоре.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА USB

Переключитесь в режим пыльного воспроизведения с помощью кнопки "↔" и выберите нужный файл через Управление файлами.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SD/TF-КАРТЫ

Нажмите «Медиаплеер» на планшете и выберите файл, который хотите воспроизвести.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА AUX (ВХОД)

Подключите кабель AUX от порта AUX In на выходе вашего устройства. Переключитесь в режим AUX с помощью кнопки "↔".

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА AUX (Выход)

Подключите кабель AUX к выходному порту AUX ко входу вашего устройства. Воспроизведение музыки с устройством совместимого с AUX (например, MP3-плеера или любого устройства, поддерживающего разъем 3.5 mm). При использовании режима AUX управление воспроизведением звука через предложенное устройство.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИТАРЫ

Загрузите приложение эквалайзера в «APP», чтобы сбалансировать звук вашей гитары.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА TWS

Убедитесь, что смартфон подключен только один динамик. Включите режим TWS в «Настройках» на обоих караоке-автоматах для автоматического подключения.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА KARAOKE

TWS может отключиться, если два караоке-автомата находятся слишком друг от друга. Для восстановления соединения настройте интервал в диапазоне 5-10 минут. Если основная караоке-машина выключается или выходит из режима TWS, дополнительная караоке-машина перейдет в режим сопряжения в течение 10 минут. На основную караоке-машину это не повлияет, если дополнительная караоке-машина выйдет из режима TWS.

REDNER

1. BLUETOOTH-VERBINDUNG

2. FERNSEHER ÜBER HDMI ANSCHLIEßen

3. USB-MODUS VERWENDEN

4. VERWENDUNG EINER SD-/TF-KARTE

5. VERWENDUNG DES AUX-(EINGANGS)-MODUS

6. VERWENDUNG DES AUX-MODUS (AUSGANG)

7. EINE GITARRE ANSCHLÜBEN

8. VERWENDUNG DES TWS-MODUS

9. KARAOKE SINGEN

WARTUNG

1. REINIGUNG

Befolgen Sie die Anweisungen in der Kurzanleitung und sehen Sie sich die detaillierten Informationen unten an, um Hilfe zu erhalten.

2. LÄDEN SIE IHRE BREAK X2 AUF

Sobald der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, können Sie den eingebauten Akku am Stromquelle nutzen, indem Sie den Wechselstrom ausschalten.

3. TRANSPORT

Ziehen Sie alle Kabel ab und sichern Sie das Tablet. Platziertieren Sie Mikrofone in den dafür vorgesehenen Steckplätzen. Benutzen Sie den Schultergurt undwickeln Sie ihn sicher um.

4. AKTUALISIEREN

Das System von Break X2 erhält alle zwei Monate Updates. Sie haben die Möglichkeit, diese Aktualisierungen entweder zu akzeptieren oder abzulehnen.

5. ZURÜCKSETZEN

Setzen Sie Ihre Karaoke-Maschine zurück, indem Sie in den Einstellungen nach „ Zurücksetzen“ suchen und darauf klicken.

KUNDENDIENST

12 Monate eingeschränkte Garantie. Lebenslanger technischer Support.

AUFMERKSAMKEIT

Überprüfen Sie die Maschine vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Zur Vermeidung von Stromschlägen darf die Geräte nicht in nassen Zustand aufgestellt werden. Führen Sie das Ladekabel nicht durch Pfützen oder andere Feuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenchein, Feuer oder anderen Wärmequellen aus, um die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion zu verringern.

REDNER

1. CONNEXION BLUETOOTH

Connexion au niveau de l'application sur votre appareil et sélectionnez le fichier souhaité via la gestion des fichiers.

2. CONNEXION D'UN TÉLÉVISEUR VIA HDMI

L'image sera affichée simultanément sur l'appareil et le téléviseur.

3. UTILISATION DU MODE USB

Passez en mode de lecture locale à l'aide du bouton " " et sélectionnez le fichier souhaité via la gestion des fichiers.

4. UTILISATION DU MODE SD/TF

Appuyez sur « Media Player » sur votre tablette et sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

5. UTILISATION DU MODE AUX (ENTRÉE)

Connexion du câble auxiliaire à l'aide du bouton " ".

6. UTILISATION DU MODE AUX (SORTIE)

Connexion du câble auxiliaire au port de sortie auxiliaire à l'entrée de votre appareil.

7. CONNECTER UNE GUITARE

Téléchargez l'application d'égalisation dans « APP » pour équilibrer le son de votre guitare.

schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- 1) Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie neu.
- 2) Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- 3) Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- 4) bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-LautsprecherTechniker um Hilfe.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth Inc., and any use of such marks by Alka Electronic Technology Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FR

UTILISER BREAK X2

Suivez les instructions du Guide de démarrage rapide et consultez les informations détaillées ci-dessous pour obtenir de l'aide.

1. ALLUMER/ÉTINER

Une fois l'ensemble complètement chargé, vous pouvez utiliser la batterie intégrée comme source d'alimentation en coupant l'alimentation secteur.

2. CHARGEZ VOTRE BREAK X2

Pour charger le Break X1, utilisez le câble d'alimentation fourni et assurez-vous qu'il est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois. Pour maintenir la durée de vie de la batterie, vous devez la charger complètement au moins une fois tous les 3 mois.

TABLETTE

1. UTILISATION DU MENU PRINCIPAL DE LA TABLETTE

- Sur le côté gauche de la page d'accueil, ouvrez le menu principal pour contrôler le WiFi, le Bluetooth, les lumières, les paramètres et d'autres fonctions.
- Sur les CHANSONS : présentez le lecteur multimédia, la bibliothèque musicale et les listes de chansons préenregistrées.
- Section « APP » : recherchez et installez diverses applications à l'aide du package d'installation.
- Section « PLUS » : garez les fichiers locaux, utilisez l'application pour nettoyer et visualiser l'écran.
- Accédez rapidement au Bluetooth ou au WiFi à l'aide des icônes sur la page d'accueil.
- Basculer entre les modes sonores Hi-Fi, Extérieur et Lumière dans « Mode Musique ».
- Ajustez le volume, la luminosité et la résolution dans Paramètres.

WARTUNG

1. REINIGUNG

Befolgen Sie die Anweisungen in der Kurzanleitung und sehen Sie sich die detaillierten Informationen unten an, um Hilfe zu erhalten.

2. STANDBY-MODE

- Standby-Modus: Um in den Standby-Modus zu wechseln, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Zum Verlassen drücken Sie sie erneut oder berühren Sie den Bildschirm.
- Beim Neustart merkt sich das Gerät die vorherigen Einstellungen.

3. LÄDEN SIE IHRE BREAK X2 AUF

Verrichten Sie auf dem Bildschirm des Break X2 das mitgelieferte Netzkabel und stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

4. AKTUALISIEREN

Verwenden Sie die App „Break X2“ erhält alle zwei Monate Updates. Sie haben die Möglichkeit, diese Aktualisierungen entweder zu akzeptieren oder abzulehnen.

5. ZURÜCKSETZEN

Setzen Sie Ihre Karaoke-Maschine zurück, indem Sie in den Einstellungen nach „ Zurücksetzen“ suchen und darauf klicken.

KUNDENDIENST

12 Monate eingeschränkte Garantie. Lebenslanger technischer Support.

AUFMERKSAMKEIT

Überprüfen Sie die Maschine vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.

REDNER

1. CONNEXION BLUETOOTH

Connexion à la page principale ou dans les paramètres, puis connectez votre réseau dans la liste des options disponibles.

2. MICROPHONE

1. MARCHE/ARRÊT

Les microphones sont automatiquement connectés à la machine à karaoë lors de la mise sous tension.

2. CHARGEMENT DU MICROPHONE

Pour charger un microphone, éteignez-le et branchez-le sur les prises de la machine à karaoë.

3. AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME

Appuyez sur Vol+ pour régler le niveau de volume du microphone.

4. ALLER EN AVANT

Lorsque vous utilisez un lecteur local, appuyez sur le bouton du milieu pendant 2 secondes pour changer la chanson suivante, et appuyez une fois pour lire ou mettre en pause.

5. UTILISER LE MODE PRIORITÉ AU MICROPHONE

Activez le mode Priorité microphone en appuyant sur le bouton Music Ducking de la machine à karaoë.

MICROPHONE

1. MARCHE/ARRÊT

Les microphones sont automatiquement connectés à la machine à karaoë lors de la mise sous tension.

2. CONNEXION AU WLAN

Recherchez le WiFi sur la page principale ou dans les paramètres, puis connectez votre réseau dans la liste des options disponibles.

TABLETTE

1. UTILISATION DES TABLET-HAUPTMENÜS

- Öffnen Sie auf der linken Seite der Startseite das Hauptmenü, um WLAN, Bluetooth, Lichteinblendung, Einstellungen und andere Funktionen zu steuern.
- Section „SONGS“: Stellt den Mediaplayer, die Musikbibliothek und personalisierte Songlisten vor.
- Section „PLUS“: Geregt die lokalen Dateien an, nutzt die Anwendung für Reinigung und Visualisierung des Bildschirms.
- Öffnen Sie die Symbole auf der Startseite schnell auf Bluetooth oder WLAN zu.
- „Klangmodi“: Wechseln Sie zwischen Hi-Fi, Outdoor und Licht.
- Ajustieren Sie den Bildschirmschlussel.

2. LAGERUNG

- Laden Sie das Gerät und die Mikrofone nach Gebrauch auf.
- Platzieren Sie die Mikrofone in den dafür vorgesehenen Steckplätzen.
- Benutzen Sie den Schultergurt undwickeln Sie ihn sicher um.

3. TRANSPORT

- Ziehen Sie alle Kabel ab und sichern Sie das Tablet.
- Platzieren Sie Mikrofone in den dafür vorgesehenen Steckplätzen.
- Benutzen Sie den Schultergurt undwickeln Sie ihn sicher um.

4. AKTUALISIEREN

- Das System von Break X2 erhält alle zwei Monate Updates. Sie haben die Möglichkeit, diese Aktualisierungen entweder zu akzeptieren oder abzulehnen.

5. ZURÜCKSETZEN

- Setzen Sie Ihre Karaoke-Maschine zurück, indem Sie in den Einstellungen nach „ Zurücksetzen“ suchen und darauf klicken.

KUNDENDIENST

- 12 Monate eingeschränkte Garantie. Lebenslanger technischer Support.

AUFMERKSAMKEIT

Überprüfen Sie die Maschine vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.

REDNER

1. CONNEXION BLUETOOTH

Connexion à la page principale ou dans les paramètres, puis connectez votre réseau dans la liste des options disponibles.

2. CONNEXION AU WLAN

Recherchez le WiFi sur la page principale ou dans les paramètres, puis connectez votre réseau dans la liste des options disponibles.

MICROPHONE

1. MARCHE/ARRÊT

Les microphones sont automatiquement connectés à la machine à karaoë lors de la mise sous tension.

2. CHARGEMENT DU MICROPHONE

Pour charger un microphone, éteignez-le et branchez-le sur les prises de la machine à karaoë.

3. AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME

Appuyez sur Vol+ pour régler le niveau de volume du microphone.

4. ALLER EN AVANT

Lorsque vous utilisez un lecteur local, appuyez sur le bouton du milieu pendant 2 secondes pour changer la chanson suivante, et appuyez une fois pour lire ou mettre en pause.

5. UTILISER LE MODE PRIORITÉ AU MICROPHONE

Activez le mode Priorité microphone en appuyant sur le bouton Music Ducking de la machine à karaoë.

REDNER

1. CONNEXION BLUETOOTH

Connexion à la page principale ou dans les paramètres, puis connectez votre réseau dans la liste des options disponibles.

2. CONNEXION D'UN TÉLÉVISEUR VIA HDMI

L'image sera affichée simultanément sur l'appareil et le téléviseur.

3. UTILISATION DU MODE USB

Passez en mode de lecture locale à l'aide du bouton " " et sélectionnez le fichier souhaité via la gestion des fichiers.

4. UTILISATION D'UNE CARTE SD/TF

Appuyez sur « Media Player » sur votre tablette et sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

5. UTILISATION DU MODE AUX (ENTRÉE)

Connexion du câble auxiliaire à l'aide du bouton " ".

6. UTILISATION DU MODE AUX (SORTIE)

Lecture de musique à partir d'un appareil compatible AUX (telle qu'un téléphone, un MP3 ou tout autre appareil prenant en charge une prise jack 3.5 mm). Lorsque vous utilisez le mode AUX, contrôlez la lecture audio via l'appareil connecté.

7. CONNECTER UNE GUITARE

Téléchargez l'application d'égalisation dans « APP » pour équilibrer le son de votre guitare.

1. BẮT/TẮT

Micro sẽ tự động kết nối khi bật máy karaoke.

2. SAC MICRÔ.

Bé sac micrô Tát micrô và cảm biến cảm biến của máy karaoke.

3. TĂNG/GIẢM ÂM LƯỢNG

Nhấn +Vol- để điều chỉnh âm lượng micrô.

4. BỎ QUA PHÍA TRƯỚC

Để chuyển sang bài hát tiếp theo khi sử dụng phát trực tiếp Nhấn nút giữ trong 2 giây và nhấn một lần để phát hoặc tạm dừng.

5. SỬ DỤNG CHÉ ĐỘ TÌM MICRO.

Kích hoạt chế độ Tìm micro bằng cách nhấn nút Music Ducking trên máy karaoke.

Che đùa với tên micro: Tiếng ồn xung quanh được tự động giảm bớt để nhẫn mạn giọng nói của con người.

GIÀNG VIÊN

1. KẾT NỐI BLUETOOTH

Ngắt kết nối: Tắt Bluetooth trên thiết bị của bạn sẽ ngắt kết nối và vào lại chế độ ghép nối.

2. KẾT NỐI TV QUA HDMI.

Hình ảnh được hiển thị đồng thời trên máy ảnh và TV.

3. SỬ DỤNG CHÉ ĐỘ USB

Chuyển sang chế độ phát lại cục bộ bằng nút " " và chọn tệp mong muốn thông qua trình quản lý.

4. SỬ DỤNG THẺ SD/TF

Nhập vào "Media Player" trên máy tính bảng của bạn và chọn tệp bạn muốn phát.

5. SỬ DỤNG CHÉ ĐỘ AUX (IN)

Kết nối cáp Aux từ cổng Aux In với đầu ra của thiết bị.

Chuyển sang chế độ Aux bằng nút " ".

Phát thử từ các thiết bị tương tự với AUX (bắt kỹ thuật là nút tương thích với 3.5 mm, chẳng hạn như điện thoại, máy nghe nhạc MP3).

Khi sử dụng chế độ Aux, hãy điều khiển việc phát lại âm thanh thông qua thiết bị

được kết nối.

GIÀNG VIÊN

1. KẾT NỐI BLUETOOTH

Ngắt kết nối: Tắt Bluetooth trên thiết bị của bạn sẽ ngắt kết nối và vào lại chế độ ghép nối.

2. KẾT NỐI TV QUA HDMI.

Hình ảnh được hiển thị đồng thời trên máy ảnh và TV.

3. SỬ DỤNG CHÉ ĐỘ USB

Chuyển sang chế độ phát lại cục bộ bằng nút " " và chọn tệp mong muốn thông qua trình quản lý.

Nhập vào "Media Player" trên máy tính bảng của bạn và chọn tệp bạn muốn phát.

4. SỬ DỤNG THẺ SD/TF

Nhập vào "Media Player" trên máy tính bảng của bạn và chọn tệp bạn muốn phát.

5. SỬ DỤNG CHÉ ĐỘ AUX (IN)

Kết nối cáp Aux từ cổng Aux In với đầu ra của thiết bị.

Chuyển sang chế độ Aux bằng nút " ".

Phát thử từ các thiết bị tương tự với AUX (bắt kỹ thuật là nút tương thích với 3.5 mm, chẳng hạn như điện thoại, máy nghe nhạc MP3).

Khi sử dụng chế độ Aux, hãy điều khiển việc phát lại âm thanh thông qua thiết bị

được kết nối.

ID

MENGUNAKAN BREAK X2

Klik petunjuk di Panduan Memulai Cepat dan lihat informasi rinci di bawah untuk bantuan.

Setelah menginstal speaker hingga penuh, Anda dapat menggunakan baterai internal sebagai sumber listrik dengan memutuskan daya AC.

1. HIDUP/MATI

Mode siaga: Tekan tombol daya dan tekan lagi untuk masuk ke mode siaga atau ketika layar untuk keluar.

Setelah mesin dipindahkan ulang, pengaturan Anda sebelumnya akan dipulihkan.

2. ISI ULANG WAKTU ISTIRAHAT BREAK X2

Gunakan kabel daya yang disertakan untuk mengisi daya Break X2 dan pastikan kabel tenaga punya sebuah dilengkapi perataan kali.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai, isi daya hingga penuh setidaknya selama 3 buah.

3. PEDULI

1. PEMBERISIHAN

Akses menu utama di sini kirim halaman beranda untuk Wi-Fi, Bluetooth, Pengaturan, Mode Musik, Pengaturan, dan lainnya.

Bagian "Bermacam": Lelajah pemutar media, perputaran musik, dan daffar putar yang dipersonalisasi.

Bagian "APLIKASI": Temukan dan instal berbagai aplikasi menggunakan paket instalasi.

Bagian lanjut: Kelola file lokal, gunakan aplikasi pemberisihan, dan ambil tangkapan layar.

Akses Bluetooth atau Wi-Fi dengan cepat dengan mengklik ikon di halaman beranda.

Berlalu antara mode suara Hi-Fi, Luruan, dan Ringan dalam Mode Musik.

2. SAMBUNGKAN KE WLAN

Temukan Wi-Fi di halaman beranda atau di pengaturan, lalu sambungkan jaringan Anda dari daftar opsi yang tersedia.

3. MIKROFON

Microfon akan otomatis terhubung saat mesin karaoke dihidupkan.

4. PENYIMPANAN

Isi daya kamera dan mikrofon setelah digunakan.

Masukkan mikrofon ke dalam slot mesin karaoke.

Batasi: Tempatkan mikrofon di slot yang ditentukan.

Gunakan tall bahan dengan mengencangkanannya dengan aman.

5. ATUR ULANG

Reset mesin karaoke Anda dengan mencari dan mengklik "Reset" di Pengaturan.

6. PERHATIAN

1. HIDUP/MATI

Microfon akan otomatis terhubung saat mesin karaoke dihidupkan.

2. MENGISI DAYA MIKROFON

Untuk mengisi daya mikrofon, matikan dan colokkan ke soket mesin karaoke.

3. VOLUME NAHK/TURUN

Tekan +Vol- untuk mengatur volume mikrofon.

4. LEWAT KE DEPAN

Untuk mengubah bài hát hiện tại sau đó nhấn nút tạm dừng.

Đặt micro vào chế độ chờ.

Lưu trữ ở nơi khô thoáng.

5. MENGUNAKAN MODE PRIORITAS MIKROFON

Ngắt kết nối tất cả các dây cáp và cõi máy tính bảng.

Đặt micro vào chế độ chờ.

Sử dụng dây deo và cõi máy tính bảng.

6. SỬ DỤNG CHÉ ĐỘ TÌM MICRO.

Kích hoạt chế độ Tìm micro bằng cách nhấn nút Music Ducking trên máy karaoke.

Che đùa với tên micro: Tiếng ồn xung quanh được tự động giảm bớt để nhẫn mạn giọng nói của con người.

7. GIÀNG VIÊN

Nhấn +Vol- để điều chỉnh âm lượng micrô.

Để chuyển sang bài hát tiếp theo khi sử dụng phát trực tiếp Nhấn nút giữ trong 2 giây và nhấn một lần để phát hoặc tạm dừng.

8. SỬ DỤNG CHÉ ĐỘ TÌM MICRO.

Kích hoạt chế độ Tìm micro bằng cách nhấn nút Music Ducking trên máy karaoke.

Che đùa với tên micro: Tiếng ồn xung quanh được tự động giảm bớt để nhẫn mạn giọng nói của con người.

9. HẤT KARAOKE

Để xác định xác và chế độ đầu tiên micro được đặt. (Xem trước)

bật tắt không chạy.

Để truy cập các bài hát karaoke Chọn ứng dụng trên máy tính bảng của bạn (chẳng hạn như YouTube, Smule và Starmaker) hoặc tải xuống ứng dụng thông qua "APP".

10. QUAN TÂM

Đảm bảo chỉ có một loa được kết nối với điện thoại thông.

Để kết nối công nghệ ché độ TWS trong phần "Cài đặt" trên cả hai máy karaoke.

Nếu máy karaoke chính bị tắt hoặc thoát khỏi chế độ TWS, máy karaoke sẽ tự động chạy.

Để kết nối công nghệ ché độ AUX (IN).

Kết nối cáp Aux từ cổng Aux In với đầu ra của thiết bị.

Chuyển sang chế độ Aux bằng nút " ".

Đặt micro vào chế độ chờ.

Để truy cập các bài hát karaoke Chọn ứng dụng trên máy tính bảng của bạn (chẳng hạn như YouTube, Smule và Starmaker) hoặc tải xuống ứng dụng thông qua "APP".

11. TÁM KARAOKE

Để xác định xác và chế độ đầu tiên micro được đặt. (Xem trước)

bật tắt không chạy.

Để truy cập các bài hát karaoke Chọn ứng dụng trên máy tính bảng của bạn (chẳng hạn như YouTube, Smule và Starmaker) hoặc tải xuống ứng dụng thông qua "APP".

12. QUAN TÂM

Đảm bảo chỉ có một loa được kết nối với điện thoại thông.

Để kết nối công nghệ ché độ TWS trong phần "Cài đặt" trên cả hai máy karaoke.

Nếu máy karaoke chính bị tắt hoặc thoát khỏi chế độ TWS, máy karaoke sẽ tự động chạy.

Để kết nối công nghệ ché độ AUX (IN).

Kết nối cáp Aux từ cổng Aux In với đầu ra của thiết bị.

Chuyển sang chế độ Aux bằng nút " ".

Đặt micro vào chế độ chờ.

Để truy cập các bài hát karaoke Chọn ứng dụng trên máy tính bảng của bạn (chẳng hạn như YouTube, Smule và Starmaker) hoặc tải xuống ứng dụng thông qua "APP".

13. TÁM KARAOKE

Để xác định xác và chế độ đầu tiên micro được đặt. (Xem trước)

bật tắt không chạy.

Để truy cập các bài hát karaoke Chọn ứng dụng trên máy tính bảng của bạn (chẳng hạn như YouTube, Smule và Starmaker) hoặc tải xuống ứng dụng thông qua "APP".

14. QUAN TÂM

Đảm bảo chỉ có một loa được kết nối với điện thoại thông.

Để kết nối công nghệ ché độ TWS trong phần "Cài đặt" trên cả hai máy karaoke.

Nếu máy karaoke chính bị tắt hoặc thoát khỏi chế độ TWS, máy karaoke sẽ tự động chạy.

Để kết nối công nghệ ché độ AUX (IN).

Kết nối cáp Aux từ cổng Aux In với đầu ra của thiết bị.

Chuyển sang chế độ Aux bằng nút " ".

Đặt micro vào chế độ chờ.

Để truy cập các bài hát karaoke Chọn ứng dụng trên máy tính bảng của bạn (chẳng hạn như YouTube, Smule và Starmaker) hoặc tải xuống ứng dụng thông qua "APP".

15. QUAN TÂM

Đảm bảo chỉ có một loa được kết nối với điện thoại thông.

Để kết nối công nghệ ché độ TWS trong phần "Cài đặt" trên cả hai máy karaoke.

Nếu máy karaoke chính bị tắt hoặc thoát khỏi chế độ TWS, máy karaoke sẽ tự động chạy.

Để kết nối công nghệ ché độ AUX (IN).

Kết nối cáp Aux từ cổng Aux In với đầu ra của thiết bị.

Chuyển sang chế độ Aux bằng nút " ".

Đặt micro vào chế độ chờ.

Để truy cập các bài hát karaoke Chọn ứng dụng trên máy tính bảng của bạn (chẳng hạn như YouTube, Smule và Starmaker) hoặc tải xuống ứng dụng thông qua "APP".

16. QUAN TÂM

Đảm bảo chỉ có một loa được kết nối với điện thoại thông.

Để kết nối công nghệ ché độ TWS trong phần "Cài đặt" trên cả hai máy karaoke.

Nếu máy karaoke chính bị tắt hoặc thoát khỏi chế độ TWS, máy karaoke sẽ tự động chạy.

Để kết nối công nghệ ché độ AUX (IN).

Kết nối cáp Aux từ cổng Aux In với đầu ra của thiết bị.

Chuyển sang chế độ Aux bằng nút " ".

Đặt micro vào chế độ chờ.

Để truy cập các bài hát karaoke Chọn ứng dụng trên máy tính bảng của bạn (chẳng hạn như YouTube, Smule và Starmaker) hoặc tải xuống ứng dụng thông qua "APP".</

- 使用後請為本機和麥克風充電。
- 將麥克風放入卡拉 OK 機的兩個插槽中。
- 儲存在陰涼，乾燥的地方。

3. 輸送

- 拔下所有電線以固定平板電腦。
- 將麥克風放置在指定插槽中。
- 使用肩帶將其牢固地係緊。

4. 更新

- Break X1 的系統每兩個月更新一次。您可以選擇接受或拒絕這些更新。

5. 重置

- 在設定中找到“重設”，然後按一下以重設您的卡拉 OK 裝置。

客戶服務

- 12 個月有限保固。
- 終身技術支援。

注意

- | | |
|--|--|
|  使用原廠或經過認證的電纜。 |  每次使用前檢查機器是否有損壞。 |
|  請勿拆卸。 |  避免極端溫度。 |
|  避免下墜。 |  在雷雨天氣或長時間不使用時，請拔下本設備的電源插頭。 |
|  為避免觸電，請勿在潮濕時安裝設備。
請勿在潮濕的環境下充電。 |  為了降低火災或爆炸的風險，請勿將設備暴露在過熱的環境中，例如陽光、火或其他熱源。 |

FCC 守則

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定。以下兩個條件適用於此操作：

 1) 該設備不得造成有害幹擾，且 2) 該設備必須符合以下規定。接受所有收到的干擾

警告：未經合規負責方明確批准的變更或修改可能會導致使用者操作設備的權限失效。

注意：本設備經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位設備的限制。這些限制旨在提供合理的保護，防止住宅安裝中的有害幹擾。該設備會產生、使用並輻射射頻能量，如果不按照說明安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害幹擾。但是，不能保證在特定安裝中不會發生幹擾。如果此設備確實對無線電或電視接收造成有害幹擾（可透過關閉和開啟設備來確定），則鼓勵使用者嘗試透過以下一項或多項操作來糾正幹擾：

- 1) 重新調整或擺放接收天線。
- 2) 增加設備和接收器之間的距離。
- 3) 將設備連接到與接收器所連接的電路不同的電路上的插座。
- 4) 如果您需要協助，請聯絡您的經銷商或經驗豐富的無線電/揚聲器技術人員。

輻射暴露聲明 (僅限揚聲器)

本設備符合針對非受控環境規定的 FCC 輻射暴露限制。安裝和操作該設備時，輻射與您的身體之間的最小距離應為 20 公分。

 Bluetooth® 文字商標和標誌是我們擁有的註冊商標。使用 Bluetooth SIG, Inc. 和 Aika Electronic Technology 的適用商標的有限許可。其他商標和產品名稱均為我公司的商標和產品名稱。